


NYC کے ریستورنٹس میں COVID-19 کے پھیلاؤ کو روکیں!

گھر سے باہر کھانا کھانے کے حوالے سے مندرجہ ذیل
اقدامات اٹھائیں:


اگر بیمار ہیں تو گھر پر رہیں

اگر بیمار ہیں تو گھر پر رہیں اور کھانا گھر پر
منگوائیں۔




جسمانی فاصلہ رکھیں

ریستورنٹ کے عملے اور دیگر لوگوں سے کم از کم 6
فٹ کے فاصلے پر رہیں۔



چہرے پر نقاب پہنیں

جب میز پر بیٹھے نہ ہوں یا کچھ کھا یا پی نہ رہے
ہوں تو چہرے پر نقاب پہنیں۔ آپ علامات کے بغیر بھی
متعدی ہو سکتے ہیں۔



اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں

جب آپ ریستورنٹ میں داخل ہوں یا وہاں سے باہر نکلیں
تو اپنے ہاتھ دھوئیں یا ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں۔



ٹیسٹ کروائیں: تمام پانچوں بوروز میں COVID-19 ٹیسٹنگ کے مقامات موجود ہیں۔
مقام تلاش کرنے کے لیے nyc.gov/covidtest ملاحظہ کریں یا 311 پر
کال کریں۔

تازہ ترین معلومات کے لیے nyc.gov/coronavirus ملاحظہ کریں۔